



## سوال

(51) رخصتی سے پہلے طلاق

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بہاری ایک عزیزہ کا نکاح کچھ عرصہ قبل ایک شخص سے پڑھا گیا لیکن رخصتی نہیں کی گئی کہ اس شخص نے اسے طلاق دے دی۔ اب دوبارہ دونوں گھرانے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی کیا شکل ہے اس میں رجوع ہو گا یا نیا نکاح پڑھا جائے گا۔ (ایک سائل لوہاری لاہور)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایسی عورتیں جن کو خاوند نے چھوٹے سے قبل ہی طلاق دے ڈالی ہو۔ ان کی عدت نہیں ہوتی۔ اس لیے رجوع کرنے والا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ طلاق رجعی کا تعلق عدت کے ساتھ ہے۔ یہ ایک طلاق بانسہ ہے اب از سر نو نکاح پڑھ کر دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَخَلَّيْتُمُ الْمَوْتِمَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَيَتَّخِذُوهُنَّ تُرَاغِمًا ۚ عَمَلًا ۙ ۴۹ ... سورة الاحزاب

"اے ایمان والو! جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں چھوٹے سے قبل طلاق دے ڈالو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ انہیں کچھ مال دو اور بچلے طریقے سے رخصت کرو۔"

اس آیت کریمہ میں عدت کے ساقط ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مرد کا حق رجوع ختم ہو جاتا ہے اور عورت کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ طلاق کے فوراً بعد جس سے چاہے نکاح کروا سکتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں۔

"بداء امر جمع علیہ بین العلماء: أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لعدة عليها فتمت بغيره من فوراً من رضاء" (تفسیر ابن کثیر 3/548)

"اس مسئلہ پر علماء کے درمیان اجماع ہے کہ جب عورت کو دخول سے قبل طلاق دے دی جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں طلاق کے فوراً بعد جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔"

اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرد اگر اپنی بیوی کو چھوٹے سے قبل طلاق دے دے تو مرد کا حق رجوع باقی نہیں رہتا بلکہ ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اب اگر وہی آپس میں لکھے رہنا چاہیں اور ازدواجی تعلقات استوار کرنے کے خواہش مند ہوں تو از سر نو نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔



حد ما عندی والدرا علم بالصواب

## آپ کے مسائل اور ان کا حل

جلد 2 - کتاب الطلاق - صفحہ نمبر 430

محدث فتویٰ